

## حدیث سافٹ ویئرز کا تجزیاتی مطالعہ

ڈاکٹر سید غضنفر احمد <sup>[1]</sup>

### Abstract

Muhadithin have done extensive efforts int the field of Hadith to preserve the Words, Actions, attributes and the actions approved by the Holy Prophet SAWW. The collection of narrations becomes huge(Hundreds of thousand). It is quite difficult for a research scholar, Mufti or Ulemas to gone through the whole literature before passing a shariah ruling or conducting research on any topic. After the IT revolution in late 90s huge changes occurred in every field of life. The pace of life became faster and humans became busier than before. Muslim scholars took advantages of this era as well. They introduced variety of softwares regarding Qur'an, Hadith and Fiqh. This article describes about different Hadith softwares like Encyclopedia of Narrators, Easy Quran Wa Hadith, Search Quran and Hadith software, مکتبۃ الشاملۃ , موسوعۃ رُوَاة الحدیث , موسوعۃ الحدیث الشریف المعروف بالکتب التسعة , جوامع الکلم their introduction, prominent features and the other related details for the researchers.

علوم اسلامیہ کی تحقیق میں حدیث شریف کی حیثیت بنیادی مصادر کی ہے۔ قرآن کی تفسیر ہو یا کوئی فقہی قضیہ حدیث شریف کے بغیر وہ تحقیق و جستجو ناممکن ہے کیونکہ آپ ﷺ ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے شرح و تبیین کے لئے مامور تھے

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (1)

نبی ﷺ کی حیات طیبہ ہی سے صحابہ کرام نے اس ذخیرہ / خزانے کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی شروع کر دیا تھا (حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ ﷺ کے ارشادات سن کر لکھ لیا کرتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے (2)

دورتا بعین اور تبع تابعین میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ پہلی صدی ہجری کے اواخر میں امیر المؤمنین عمر

<sup>[1]</sup> استاذ شعبہ قرآن و سنہ، کلیہ معارف اسلامیہ جامعہ کراچی۔

## حدیث سوفٹ ویئرز کا تجزیاتی مطالعہ

بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے سرکار کی سرپرستی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جس نے اس کام کو منظم انداز سے شروع کیا بالآخر تیسری صدی ہجری میں حدیث کی چانچ پڑتال کے ساتھ صحاح ستہ کی تدوین شروع ہوئی۔

اور یہ کام صدیوں پر محیط رہا بعد ازاں، مستدرکات، مستخرجات اور دوسری کتب کی تدوین سے لاکھوں احادیث مہار کہ کو محفوظ کر لیا گیا۔ جمع و تدوین حدیث کے سلسلے میں محدثین نے جس درجے احتیاط سے کام لیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔

ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں،

"ہم آج بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیثوں کی صحت جانچنے کا جو وسیلہ ہمارے پاس ہے اس کا عشرِ عشر بھی کسی اور قوم کے پاس نہیں پایا جاتا۔ میں اپنے عیسائی بھائیوں کو ناراض کئے بغیر یہ کہہ سکتا ہوں کہ انکے انجیل پر اتنا اعتماد نہیں کیا جاسکتا جتنا ہماری بخاری و ترمذی پر کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ انجیل کی تدوین، انجیل کا تحفظ، انجیل کا نسل بعد نسل منتقل ہونا اس طریقے سے عمل میں نہیں آیا جس طریقے سے احادیث کی کتابوں میں عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ (3)

ابتدائی دور میں تو ان کے نسخے ہاتھوں سے لکھوائے جاتے تھے لیکن جوں جوں کتب کی ترویج و اشاعت کے نت نئے طریقے ایجاد ہوتے چلے گئے تو خزانہ احادیث مزید پھلتا پھلتا رہا اور علماء و محققین اس سے استفادہ کرتے رہے۔ فی زمانہ جب لوگوں کی یادداشت میں نقص واقع ہونا شروع ہوا تو یہ امر نہایت اہم تھا کہ محققین و علماء کی آسانی کے لئے ایسے ٹولز (Tools) ایجاد کیے جائیں جس کی مدد سے وہ لاکھوں احادیث میں سے درپیش مسئلہ کے متعلق حدیث چند لمحوں تلاش کر سکتے تاکہ اس کی روشنی میں اجتہاد کر کے کسی نتیجے تک پہنچنا ان کے لئے ممکن ہو سکے

90 کی دہائی میں جب انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا نیا دور شروع ہوا تو اہل علم نے اس سے بھی خوب خوب استفادہ کیا۔ جس کی وجہ سے دین اسلام کی ترویج و ترقی اور حفاظت و صیانت کیلئے کمپیوٹر اور نیٹ کا استعمال عام ہونے لگا۔

کچھ حساس نوجوان اس جانب متوجہ ہوئے کہ قرآن و حدیث میں بکھرے موتیوں سے استفادے کو آسان تر بنانے کیلئے الگ الگ سوفٹ ویئرز بنائے جائیں۔ اس میدان میں اہل علم کو خاطر خواہ کامیابی اور ترقی ملی۔ آج اسلام سے متعلقہ ہر موضوع پر بے شمار سوفٹ ویئرز اور ویب سائٹس موجود ہیں۔ ان اسلامی سافٹ ویئرز کی وجہ سے اسلامی کتب سے استفادہ کرنا آسان سے آسان تر ہو گیا۔ عرب دنیا میں پچھلے پچاس برس میں حدیث پر غیر معمولی کام ہوا ہے۔ حدیث سے متعلق ایسے کئی سافٹ ویئرز وجود میں آچکے ہیں جن سے دنیا بھر میں استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اردن کے دارالتراث الاسلامی کا موسوعۃ الحدیث، مکتبہ الفیہ السنۃ النبویہ، اور مکتبہ شاملہ کے تیار کردہ سافٹ ویئرز اس کی واضح مثالیں ہیں۔

ذیل میں کچھ اہم اور مشہور سافٹ ویئرز کا تعارف اور تجزیہ پیش کرتے ہیں۔

## (1) مکتبہ الشاملہ

### تعارف

یہ اسلامی کتب کی سب سے مشہور لائبریری ہے۔ اس میں قرآن حدیث سمیت بے شمار اسلامی موضوعات پر بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ اس مکتبے کی شہرت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کی سرکاری ویب سائٹ کو ہر ماہ دو لاکھ پچاس ہزار لوگ دیکھتے ہیں۔ جن میں سے ساٹھ فیصد پہلی بار آنے والے ہوتے ہیں۔ سائٹ پر موجود کتابوں کو چیک کرنے والوں کی تعداد 30 لاکھ ہے۔ 24 لاکھ 38 ہزار بار سائٹ سے ڈاؤن لوڈنگ ہوئی ہے۔ ہر ماہ torrent پر 5 ہزار سے 10 ہزار کے درمیان لوگ اس مکتبے کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ ( http://userexp.io/shamela.ws.html ) 4)

### ارتقاء

یہ موسوعہ کویت میں اوقاف و اسلامی امور کی وزارت کے درمیان تعاون کا نتیجہ ہے جس نے یہ انسائیکلو پیڈیا کاغذی ورژن میں جاری کیا۔ کویت میں اوقاف و اسلامی امور کی وزارت نے 1386ھ (1967ء) میں اس منصوبے کو فرض کفایہ کے طور پر اپنایا تھا۔ اس کے سافٹ کاپی پر درج ذیل ادوار گزرے ہیں۔

1. اس کا پہلا سافٹ ویئر ورژن صفر 1426ھ بمطابق اپریل 2005 میں منظر عام پر آیا۔ اس ورژن میں موجود کتابوں میں اضافہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔
2. اسکے بعد دوسرا ورژن 1426ھ بمطابق جنوری 2006 کو لاؤنچ ہوا۔ اس بار یوزر کیلئے کتابوں کو حذف کرنا یا اس میں اضافہ کرنا ممکن بنا دیا گیا۔
3. جمادی الثانی 1429ھ بمطابق جون 2008 میں تیسرا ورژن اپ لوڈ کیا گیا۔ اس بار کتابوں کی عبارات کو کاپی پیسٹ کرنے کی بھی سہولت دی گئی۔
4. ربیع الثانی 1433ھ بمطابق مارچ 2012 کو المکتب التعاونی للدعوة والارشاد وتوعیة الجالیات بحی الروضۃ نے اس پروگرام کو وسعت دینے کیلئے تعاون کیا۔ تاکہ Mac، phone، Tablet، Linux اور غیرہ کیلئے بھی سافٹ ویئر بنائے جاسکے۔ اسی ماہ نیٹ سے اس مکتبے کو براہ راست استعمال کرنے کو بھی ممکن بنا دیا گیا۔

### خصوصیات: (Third Edition)

- عالم اسلام کا سب سے ضخیم الیکٹرونک کتب خانہ ہے جس میں تقریباً 16100 کتابیں ہیں۔
- مکتبہ کی ویب سائٹ سے ہر وقت نئی کتب کی آسانی ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت ہوتی ہے۔
- فہرست کتب اور مجموعات میں مرضی کے مطابق تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اس فیچر کو customize کرنا کہتے ہیں

## حدیث سوفٹ ویئر کا تجزیاتی مطالعہ

اس میں اپنی مرضی کے مطابق ذاتی کتب کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔

یہ ملکتہ آپ کو تیز ترین اور آسان ترین سرچنگ کی سہولت دیتا ہے۔ اس تیسری ایڈیشن میں گذشتہ ایڈیشن کے مقابلے میں 60% سرچ کی رفتار میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو ابجدی اور موضوعاتی اعتبار سے کتب تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔

### اجمالی اعداد و شمار

70:	علوم و موضوعات کی تعداد
16100:	کل کتابوں کی تعداد
	تفصیلی اعداد و شمار

### (علوم و موضوعات کے نام اور ان میں موجود کتب کی تعداد)

231	1- قرآن عظیم کی تفاسیر
481	2- قرآنی علوم
105	3- تجوید و قراءت
321	4- متون حدیث نبوی
194	5- کتب حدیث کی شروحات
450	7- علوم الحدیث
78	8- العلل و السؤالات
50	9- علم رجال الحدیث
136	10- کتب تخریج الہادیث
157	11- شیخ البانی کی کتابیں

### ڈاؤن لوڈ لنک

یہ سافٹ ویئر بھی فری ہے۔ اس سافٹ ویئر کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ (5)

## (2) جوامع الکلم:

### تعارف

یہ سوفٹ ویئر حدیث کو سرچ کرنے کے لئے بنایا گیا ہے جو احادیث نبویہ کا ایک مشہور اور زیادہ استعمال ہونے والا سافٹ ویئر

حدیث سوئٹ ویسز کا تجزیاتی مطالعہ

ہے، اس میں حدیث کو مختلف طریقے سے سرچ کیا جاسکتا ہے۔

احادیث کی تعداد

یہ حدیث نبوی ﷺ پر مشتمل عالم اسلام کا عظیم ترین انسائیکلو پیڈیا ہے جس میں طبع شدہ اور مخطوطہ نسخوں میں پھیلی ہوئی دس لاکھ احادیث کا مجموعہ موجود ہے جو 1400 مکمل کتب اور 2000 مجلد نسخوں پر مشتمل ہیں۔

اب اس میں 543 نئے مخطوطات کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ (6)

مکتبہ میں موجود کتابوں کو مطبوعہ شکل میں خریدنے کے لیے 25 ہزار ڈالر (تقریباً 20 لاکھ روپے) درکار ہوں گے۔

راویوں کی تعداد

روایات کے ساتھ ہی راوی کے حالات کا لنک بھی موجود ہے جس سے آپ کسی بھی راوی کے تمام حالات با آسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ راویوں کے حالات پر مشتمل دنیا کا سب سے بڑا انسائیکلو پیڈیا ہے۔ اس میں 000,70 راویوں کے مکمل حالات موجود ہیں۔ ہر راوی سے متعلق علماء جرح و تعدیل کے اقوال بھی درج کئے گئے ہیں۔

گرافیکل چارٹس (Graphical charts)

اس میں حدیث کی مختلف اسناد اور مرویات کی تعداد کے 1200 گرافیکل چارٹ درج کئے گئے ہیں۔ جس کی مدد سے کسی بھی حدیث کے بارے میں جاننا آسان ہو جاتا ہے

تخریج احادیث

ہر حدیث کی مکمل تخریج کی گئی ہے اور سینکڑوں فن رجال کی کتابوں کے حوالے سے اس کی سند پر حکم بھی لگایا گیا ہے۔

لغوی تحقیق:

یہ حدیث نبوی ﷺ کا پہلا مکتبہ ہے جسے الفاظ و کلمات کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے اس میں ہر ہر لفظ کے ساتھ لغت کی چھ بڑی کتابوں سے لغوی تحقیق موجود ہے۔

جوامع الکلم کی کچھ اہم خصوصیات

محدثین نے سند کی مختلف کیفیات کے اعتبار سے ان کے لئے مختلف اصطلاحات استعمال کی ہیں جس سے ان روایات کی حیثیت کا اندازہ لگانا نہایت آسان ہو جاتا ہے مثلاً مصدر خبر کے اعتبار سے، تعداد رواۃ کے اعتبار سے، یا اپنی قوت کے اعتبار سے۔

جوامع الکلم: سافٹ ویئر میں ان اصطلاحات کے اعتبار سے الگ الگ categories بنائی گئی ہیں۔ تاکہ ہر شخص اس کو آسانی سے استعمال کر سکے۔

حدیث سوئٹ ویسز کا تجزیاتی مطالعہ

### (1) باعتبار حدیث کے اس کے کچھ اہم خصائص

-  اس میں حدیث قدسی اور مرفوع روایات کے اعتبار سے الگ الگ تقسیم ہے۔
-  حدیث غریب، عزیز، مشہور اور متواتر کا جدا جدا گانا ظہار ہے۔
-  قولی، فعلی، تقریری اور شمائل پر مشتمل احادیث کو الگ الگ ظاہر کیا گیا ہے۔
-  صحیح و حسن، ضعیف اور موضوع کے اعتبار سے ایک الگ تقسیم ہے۔

### (2) باعتبار راوی کے اس کے کچھ اہم خصائص

محدثین نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و تقاریر کو جمع کیا، بلکہ رجال حدیث پر بھی بھرپور توجہ کی، علم اسماء الرجال وجود میں آیا۔ جس میں لاکھوں راویان حدیث کے حالات زندگی (نام، کنیت، لقب، شہر، علاقہ، قبیلہ، تاریخ پیدائش و وفات، اسفار، مشائخ اور تلامذہ وغیرہ) کو قلمبند کیا گیا۔

- جو امع الکلم میں راویان حدیث کے خصائص کے اعتبار سے مندرجہ ذیل تقسیمات کی ہیں
-  ہر راوی سے مروی روایات کو گراف اور چارٹ کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔
  -  کسی خاص شہر کے تمام راویوں سے مروی روایات کو آپ با آسانی معلوم کر سکتے ہیں۔
  -  کسی خاص علاقے میں وفات پانے والے راویوں کی مرویات الگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
  -  کسی خاص قبیلے کے راویوں کی روایات الگ سے دیکھ سکتے ہیں۔
  -  اس میں صحابہ کرام کی مختلف اعتبار سے درجہ بندی کی گئی ہے۔

### (3) سرچ

-  آپ اس میں عمومی سرچ کر سکتے ہیں۔
-  باعتبار راوی کے بھی آپ سرچنگ کر سکتے ہیں۔
-  اقوال جرح و تعدیل کے اعتبار سے بھی آپ سرچنگ کر سکتے ہیں۔

### (4) موضوعاتی تقسیم:

آپ اس میں موضوعات کے اعتبار سے جدا جدا تقسیم کر سکتے ہیں، مثلاً: ایمان، معاملات، عقوبات وغیرہ

### (5) قراءۃ متنوعہ

اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں آپ ہر کتاب کو الگ ونڈوز میں پڑھ سکتے ہیں۔

حدیث سوفٹ ویئرز کا تجزیاتی مطالعہ

## (6) کتب حدیث کا تعارف

اس میں حدیث کی سینکڑوں کتابوں اور ان کے مصنفین کا مکمل تعارف موجود ہے۔

نوٹ:

جو امع الکلم نیٹ فریم ورک میسڈ ہے اور کورٹو ڈو کے بغیر اسے استعمال کرنا تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اسکی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ البتہ اس میں فیچرز بہت اہم ہیں مثلاً تخریج رسائل، علم روایہ، علم درایہ، غیر مطبوع مخطوطات احادیث پر برقی حکم، سند اور متن پر الگ الگ حکم اور تخریج کے ساتھ ساتھ حدیث کے شواہد تک رسائی وغیرہ۔

جن لوگوں کے سسٹم کمزور ہیں ان کیلئے الجامع للحدیث النبوی جو امع الکلم کا بہترین نعم البدل ہے۔ گوکہ اس میں کتب کم ہیں لیکن اسکی سرعت بحث تمام تر سافٹ ویئرز سے زیادہ ہے۔ اس سے زیادہ سریع البحث الجامع الکبیر للتراث العربی والاسلامی ہے لیکن وہ حجم میں بہت بڑا ہے۔ تقریباً GB36 ہارڈ ڈسک space مانگتا ہے

## (3) موسوعۃ الحدیث الشریف المعروف الکتب التستع

تعارف:

اس سافٹ ویئر میں حدیث کی نو کتابیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن داری، مسند احمد، اور موطا مالک پر مشتمل ایک بہترین سافٹ ویئر ہے۔ اسکی مدد سے مذکورہ کتب میں مختلف انداز سے سرچنگ کی جاسکتی ہے۔

خصوصیات

۱۔ انہیں با آسانی پڑھا جاسکتا ہے۔

۲۔ احادیث کی تخریج کی جاسکتی ہے۔ ساری کتب کی احادیث پر

صحت یا ضعف کا حکم بھی لگایا گیا ہے

۳۔ مشکل الفاظ کے معانی اور راویوں کے حالات معلوم کیے جاسکتے

ہیں،

۴۔ اس میں کتب احادیث کی شروحات مثلاً فتح الباری، تحفۃ الاحوذی، عون المعبود وغیرہ میں بھی بحث کی جاسکتی ہے۔

اسی طرح اسانید کی تفصیل اور ان کی چھان بین کے علاوہ اور بہت سے مفید کام لیے جاسکتے ہیں۔

اس سافٹ ویئر کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ (7)

یہ وی سی ڈی فارمیٹ میں موجود ہے جسے آپ بذریعہ نیرو کسی بھی خالی سی ڈی پر کاپی کر سکتے ہیں اور اسی طرح ورچول

ڈرائیو پروگرام کے ذریعہ اسے سی ڈی روم کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

حدیث سوفٹ ویئر زکا تجزیاتی مطالعہ

#### (4) موسوعۃ رواۃ الحدیث

(Encyclopedia of Narrators)



تعارف: اس مکتبہ میں رجال سے متعلق تقریباً 50 مجلد مطبوعات کے عظیم ذخیرے کو انسائیکلو پیڈیا کی شکل میں پیش کر دیا گیا ہے۔ بطور ماخذ جن مستند کتب کا سہارا لیا گیا ہے ان کی تعداد 15 ہے جو ضخیم تصانیف شمار کئے جاتے ہیں۔ اس میں ذکر کردہ راویوں کی تعداد 8858 ہے۔

اس مکتبہ میں رجال کی معلومات تہذیب الکمال فی أسماء الرجال، ، "تہذیب التہذیب" and "تقریب التہذیب" "الکاشف" سے لی گئی ہیں۔ (8)

#### خصوصیات:



- ۱ اس میں آپ راویوں کے حالات حروف تہجی کی ترتیب سے معلوم کر سکتے ہیں۔
- ۲ القاب، کنیت یا نسب کے ذریعے بھی راوی کی مکمل تفصیل تک رسائی ہو سکتی ہے۔
- ۳ کسی بھی راوی کے اساتذہ کی مکمل فہرست ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔
- ۴ ہر راوی کے شاگردوں کی فہرست بھی دیکھی جاسکتی ہے۔
- ۵ علماء فن رجال کا ہر راوی سے متعلق تبصرہ اور اقوال سامنے آجاتے ہیں۔
- ۶ اس سافٹ ویئر کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ (9)

#### (5) آسان قرآن وحدیث Easy Quran Wa Hadith

یہ سافٹ ویئر پاکستان ہی میں تیار کیا گیا ہے اس سافٹ ویئر کے Interface اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں موجود ہیں اردو زبان میں ملٹی پل سرچنگ فسلٹی (multiple searching facility) فراہم کرنے والا پہلا سافٹ ویئر ہے۔ جس میں تقریباً ایک درجن کے لگ بھگ تراجم و تفاسیر اردو و انگریزی زبانوں میں موجود ہیں۔ ساتھ ہی ایک درجن کتب احادیث مکمل عربی، اردو اور انگلش سرچنگ فسلٹی کے ساتھ موجود ہے اس سافٹ ویئر میں موجود کتب کی تفصیل درج ذیل ہے۔



## حدیث سوئٹ ویب سائٹ کا تجزیاتی مطالعہ

### ترجمہ و تفسیر:-

- 1- ترجمہ و تفسیر عثمانی----- مترجم مولانا محمود الحسن دیوبندی مفسر: مولانا شبیر احمد عثمانی
- 2- ترجمہ و تفسیر مدنی----- مترجم و مفسر مولانا اسحاق مدنی (آزاد کشمیر)۔
- 3- ترجمہ و تفسیر مکی----- مولانا جونہی مفسر مولانا صلاح الدین یوسف۔
- 4- ترجمہ و تفسیر ابن کثیر----- حافظ عماد الدین ابوالفداء ابن کثیر۔
- 5- ترجمہ و تفسیر کنز الایمان----- مترجم مولانا احمد رضا خان بریلوی مفسر علامہ نعیم الدین مراد آبادی۔
- 6- ترجمہ و تفسیر الکتب----- مترجم و مفسر ڈاکٹر محمد عثمان صاحب
- 7- ترجمہ و تفسیر تیسیر القرآن----- مترجم و مفسر مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب
- 8- ترجمہ مولانا احمد علی----- مترجم مولانا احمد علی لاہوری
- 9- ترجمہ عرفان القرآن----- مترجم پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب
- 10- ترجمہ فتح محمد جالندہری
- 11- ترجمہ جوادی
- 12- ترجمہ ابوالاعلیٰ مودودی
- 13- با آواز تلاوت----- الشیخ السدیس والشیریم
- 14- با آواز ترجمہ----- فتح محمد جالندہری

### کتب احادیث:-

- 1- صحیح بخاری شریف----- مترجم مولانا محمد عبداللہ صاحب فاضل دارالعلوم کراچی
- 2- صحیح مسلم شریف----- مترجم مولانا عزیز الرحمن صاحب فاضل جامعہ اشرفیہ لاہور
- 3- سنن ابوداؤد----- مترجم مولانا سرور احمد قاسمی صاحب فاضل دارالعلوم دیوبند
- 4- سنن نسائی----- مترجم مولانا خورشید حسن قاسمی
- 5- جامع ترمذی شریف----- مترجم مولانا ناظم الدین صاحب
- 6- سنن ابن ماجہ----- مترجم مولانا قاسم امین صاحب
- 7- شمائل ترمذی----- مترجم مولانا محمد زکریا کاندھلوی صاحب لاہور

حدیث سوفٹ ویئرز کا تجزیاتی مطالعہ

- 8- موطا امام مالک ----- مترجم علامہ  
وحید الزمان صاحب  
9- مشکاہ شریف -----  
10- سنن دارمی شریف -----  
11- مسند احمد شریف ----- مترجم مولانا ظفر اقبال

### English Translations:

1. Maulana Taqi Usmani
  2. Maulana Abdul Majid Darya Abadi
  3. Dr. Muhsin Khan and Dr. Taqi ud Din Hilali
  4. Muhammad Marmaduke Pickthal
  5. Muhammad Habib Shakir
  6. Abdullah Yousaf Ali
  7. Irfan Ul Quran
  8. Translation and Tafseer Tafhim ul Qua'an.
  9. Hindi Translation
- اس سافٹ ویئر کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ (10)

### Search Quran and Hadith software (6)

#### تعارف

اسلامک سافٹ ویئرز پر کام کرنے والوں میں ایک نام زاہد حسین صاحب کا بھی ہے۔ آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے ایک شاندار سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے کے بعد احادیث پر بھی ایک سرچ انجن ڈیزائن کیا، جس میں انہوں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، سنن نسائی اور سنن ابوماجد کو ایک ساتھ جمع کر دیا، جس میں آپ زندگی کے ہر مسئلے سے متعلق احادیث تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کام کو مکمل کرنے کے بعد انہوں نے موبائل کیلئے بھی اس طرز کے ایک سافٹ ویئر اور ایپلی کیشن بنانے کے کام کا آغاز کیا۔ آج قرآن و حدیث کی 65 جلدوں کا کام آپ کے ایک چھوٹے سے موبائل فون میں آجاتا ہے، جس میں قرآن مجید کے چھ اور احادیث کے 59 تراجم شامل ہیں

## حدیث سوفٹ ویئرز کا تجزیاتی مطالعہ

آپ نے حال ہی میں ایک موبائل فون کمپنی کے لیے ”اسلامک پورٹل“ کے نام سے ایک اور سافٹ ویئر ڈیزائن کیا ہے۔ دنیا بھر میں اس کے علاوہ موبائل پر کوئی اور اسلامک پورٹل موجود نہیں ہے۔ اس پورٹل میں انہوں نے احادیث کی تمام کتابوں کو بھی جمع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج و عمرہ، نماز جنازہ، مسنون دعائیں ترجمے اور تلاوت کے ساتھ موجود ہیں۔

”سرج قرآن“ نامی موبائل ایپلی کیشن کو مفت ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے، جب کہ ایپل آئی فون کے صارفین 2 ڈالر 99 سینٹ میں اس ایپلی کیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اینڈ رائیڈ یوزرز اپنے موبائل فون سے Play store میں جا کر Zahid Hussain لکھیں تو یہ قرآن اور حدیث کی ایپلی کیشن حاصل کر سکتے ہیں، آئی فون / آئی پیڈ کے یوزرز App Store میں جا کر Search Quran لکھیں تو یہ ایپلی کیشن وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ ونڈوز فون پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے Zahid Hussain لکھیں تو یہ ایپلی کیشن با آسانی ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔

کمپیوٹر یوزرز اسے مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ (11)“

## (7) مکتبۃ الحدیث 3000 جلدیں

یہ حدیث اور اسکے متعلقات مثلاً شروحات حدیث، علل الحدیث، تخریج الحدیث، اصطلاحات حدیث وغیرہ پر مشتمل کتب کی ایک آٹورن سی ڈی جس میں تقریباً 3000 سے زائد جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم مکتبہ ہے۔ دوسرے مکتبات کی طرح اس میں بھی

سرچنگ و دیگر سہولیات موجود ہیں۔ اس کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ (12)

حدیث شریف کے ساتھ مسلمانوں کی محبت اس وجہ سے بھی بے پناہ ہے کہ نبی صل اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن ہیں کہ ام

المؤمنین سیدہ عایشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ (13)

## (8) مزید کچھ اہم سافٹ ویئرز

احادیث کے حوالے سے مزید کچھ اہم سافٹ ویئرز مندرجہ ذیل ہیں۔

Sahih Bukhari (Arabic, Urdu & English) Software

Sahih Bukhari (Arabic-Urdu) Software

Mukhtasar Sahih Bukhari (Arabic-Urdu) Software

Mukhtasar Sahih Muslim (Arabic-Urdu) Software

Sunan Nasai Software ترجمہ و احکام کے ساتھ

Abu Dawood (Arabic-Urdu) Software ترجمہ و احکام کے ساتھ

Tirmizi (Arabic-Urdu) Software ترجمہ و احکام کے ساتھ

حدیث سوفٹ ویئرز کا تجزیاتی مطالعہ


Bulughul Maraam کے ساتھ Sunan Ibn Majah (Arabic-Urdu) Software  
(Arabic-Urdu) Software

ان تمام سوفٹ ویئرز کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ (15)

### تقابلی جائزہ

نام	زبان	کتاب کی تعداد	کتاب حدیث	عدد روایہ
شاملہ	عربی	16100	1386	---
جوامع الکلم	عربی	1400	1400	70000
موسوعۃ الحدیث	عربی	9	9	---
موسوعۃ روایۃ الحدیث	عربی	15	15	8858
آسان قرآن و حدیث	اردو/انگریزی	34	11	---
Search Quran and Hadith	اردو	65	59	---
مکتبۃ الحدیث	عربی	3000	3000	--

### مختلف احادیث سافٹ ویئرز کا اجمالی خاکہ



	شاملہ	جوامع الکلم	موسوعۃ الحدیث	موسوعۃ روایۃ الحدیث	آسان قرآن و حدیث	search Quran and Hadith
■ کتاب	16100	1400	9	15	34	65
■ کتاب احادیث	1386	1400	9	15	11	59
■ عدد روایہ		70000		8858		

اہم نوٹ: مکتبہ شاملہ سمیت اکثر عربی سافٹ ویئرز کے لئے عربی فونٹ انسٹال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ورنہ اکثر الفاظ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ عربی فونٹ انسٹال کرنے کے لئے مندرجہ ذیل لنک پر جائیں۔  
تمت بالخیر

## References

- 1 القرآن، النحل آیت 44
- 2 سیوطی، جلال الدین، تدریب الراوی، ص 286 مکتبۃ العلمیہ مدینہ منورہ 1379ھ
- 3 حمید اللہ ڈاکٹر، خطبات بہاولپور ص 59 ادارہ تحقیقات اسلامی
- 4 <http://userexp.io/shamela.ws.html>
- 5 [wordpress.com/tag/download-shamila](http://wordpress.com/tag/download-shamila)
- 6 <https://islaamiclibrary.com>
- 7 Gk.islamweb.net:8080/Gkabout.pdf ( page no. 2 )
- 8 <http://www.deenekhalis.net/play.php?catsmktba=1305>
- 9 <https://islaamiclibrary.wordpress.com/2010/01/11/narratorsenc>
- 10 <https://islaamiclibrary.wordpress.com/2010/01/11/narratorsenc> (9
- 11 <http://www.compsi.com>, <http://www.easyquranwahadees.com>
- 12 [www.nuzool.com](http://www.nuzool.com)
- 13 <http://www.ahlulhdeeth.net/play-98.html>
- 14 عَنْ یَزِيدِ بْنِ بَابْنُوسَ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ ، فَقُلْنَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ 17156  
صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَتْ : كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَتْ : إِفْرَأُ : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ )  
قَالَ يَزِيدُ : فَقَرَأْتُ : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - إِلَى : لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . قَالَتْ : كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه  
وسلم .  
أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (308) قال : حدثنا عبد السلام . و"النسائي" في "الكبرى" تحفة الاشراف  
17688. عن قُتَيْبَةَ  
كلاهما (عبد السلام ، وقُتَيْبَةَ) عن جعفر بن سُلَيْمَانَ ، عن أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عن يَزِيدِ بْنِ بَابْنُوسَ ،  
فذكره
- 15 مسند احمد: امام احمد بن حنبل (ت 241) موسسه الرساله، بيروت، لبنان، 1421هـ/ 2001ء، حديث  
نمبر(24601):148/41-